

6	וְאֵתֶם اور-تم	תְּכַתְּבוּ لکھو	אֶת- کو-	הָאָרֶץ زمین	שִׁבְעָה سات	חֻלְקִים حصوں-میں	וְהַבְּאֵתֶם اور-لاؤ	אֶל־ میرے-پاس	הַנָּהָה یہاں	וְיָרִיתִי اور-میں-ڈالوں-گا
		H3789	H0853	H0776	H7651	H0935	H0413	H2008		

لَكُمْ تمہارے-لیے	נֹרָלָה قرعہ	פֶּה یہاں	לִפְנֵי سامنے-کے	יְהוָה یہوواہ	אֶל-הֵינוּ خدا-ہمارے-کے
H1486	H6311	H6440	H3068	H0430	

حضور کے خدا کے آپ رب میں پھر کریں۔ پیش فہرستیں کی ان پھر اور ہیں تک کہاں کہاں سرحدیں کی علاقوں قبائلی نئے سات کہ لیں لکھ آدمی وہ گا۔ کروں مقرر زمین کی ایک ہر کر ڈال قرعہ مُقَدَّس

7	כִּי کیونکہ	אֵי- نہیں-ہے-	חֵלֶק حصہ	לְלוֹיִם لاویوں-کو	בְּקִרְבָּנָם تمہارے-درمیان	כִּי- کیونکہ-	כַּהֲנָת کہانت	יְהוָה یہوواہ-کی	נַחֲלָתוֹ میراث-اس-کی	וְדָד اور-جاد
		H0369	H3881	H7130	H5159	H3550	H3068	H5159	H1410	

וְרֹאוּבֵן اور-روبن	וַחֲצִי اور-آدھے	שִׁבְט قبیلے	הַמְּנַשֶּׁה منسی-کے	לְקַחוּ لے-چکے-ہیں	נַחֲלָתָם میراث-اپنی	מֵעֵבֶר پار-سے	לִירְדֵן یردن-کے	מִזְרְחָה مشرق-میں	אֲשֶׁר جو	נָתַן دی
H7205	H2677	H7626	H4519	H3947	H5159	H5676	H3383	H4217	H5414	

لَهُمْ انہیں	מֹשֶׁה موسیٰ-نے	עֶבֶר خادم-نے	יְהוָה یہوواہ-کے
H4872	H5650	H3068	

نہیں کچھ مزید بھی کو قبیلے آدھے کے منسی اور روبن جد، اور ہیں۔ امام کے رب وہ کہ ہے یہ حصہ کا اُن ہے۔ ملنا نہیں علاقہ کوئی کو لاویوں کہ رہے یاد ہے۔ چکا مل حصہ کا اُن میں مشرق کے یردن دریائے سے موسیٰ خادم کے رب انہیں کیونکہ ہے، ملنا

8	וַיִּקְמוּ اور-اٹھے	הָאֲנָשִׁים آدمی	וַיִּלְכוּ اور-گئے	וַיֵּצֵאוּ اور-حکم-دیا	יְהוֹשֻׁעַ یہوشع-نے	אֶת- کو-	הַהַלְכִים جانے-والوں	לְכַתֵּב لکھنے-کے-لیے	אֶת- کو-	הָאָרֶץ زمین
	H0376	H3212	H6680	H3091	H0853	H1980	H3789	H0853	H0776	

לְאֶמֶר کہتے-ہوئے	לָכוּ جاؤ	וְהַתְּלָכוּ اور-چلو	בְּאֶרֶץ زمین-میں	וּכְתָבוּ اور-لکھو	אוֹתָהָ اسے	וְשׁוּבוּ اور-لوٹو	אֶל־ میرے-پاس	וּפֶה اور-یہاں	אֲשֶׁלִּיד میں-ڈالوں-گا
H0559	H3212	H1980	H0776	H3789	H0853	H7725	H0413	H6311	H7993

لَكُمْ تمہارے-لیے	נֹרָלָה قرعہ	לִפְנֵי سامنے-کے	יְהוָה یہوواہ	בְּשָׂלָה شیلوہ-میں
H1486	H6440	H3068	H7887	

شہروں تمام کر گزر سے میں ملک پورے دیا، حکم انہیں نے یسوع تھا۔ گیا چنا لئے کے کرنے دورہ کا ملک جنہیں ہوئے تیار لئے کے ہونے روانہ آدمی وہ تب گا۔ دوں ڈال قرعہ لئے کے آپ حضور کے رب میں سیلا میں پھر آئیں۔ لے پاس میرے اُسے تو جائے ہو مکمل فہرست جب بنائیں۔ فہرست کی

9	وַיִּלְכוּ اور-گئے	הָאֲנָשִׁים آدمی	וַיַּעֲבְרוּ اور-گزرے	בְּאֶרֶץ زمین-میں	וַיִּכְתְּבוּ اور-لکھا-اسے	לְעָרִים شہروں-کے-مطابق	לְשִׁבְעָה سات	חֻלְקִים حصوں-میں	עַל- پر-
	H3212	H0376	H0776	H3789	H7651				

סֵפֶר کتاب	וַיִּבְאוּ اور-آئے	אֶל- کے-پاس-	יְהוֹשֻׁעַ یہوشع	אֶל- میں-	הַמְּנַחֵה لشکرگاہ	שָׂלָה شیلوہ
H0935	H0413	H3091	H0413	H4264	H7887	

میں کتاب تفصیلات تمام کے کر تقسیم میں حصوں سات کو ملک نے انہوں لی۔ بنا فہرست کی شہروں تمام کر گزر سے میں ملک پورے اور گئے چلے آدمی دی۔ دے کو یسوع میں گاہ خیمہ کی سیلا کتاب یہ اور کہیں درج

10	וַיִּשְׁלַח اور-ڈالا	לָהֶם ان-کے-لیے	יְהוֹשֻׁעַ یہوشع-نے	נֹרָלָה قرعہ	בְּשָׂלָה شیلوہ-میں	לִפְנֵי سامنے-کے	יְהוָה یہوواہ	וַיַּחֲלֶק اور-تقسیم-کی-	שָׁם وہاں	יְהוֹשֻׁעַ یہوشع-نے	אֶת- کو-
	H7993	H3091	H1486	H7887	H6440	H3068	H8033	H3091	H0853		

הָאָרֶץ زمین	לְבִנֵי بیٹوں-کو-	יִשְׂרָאֵל اسرائیل-کے	כְּמִחְלָקָתָם حصوں-کے-مطابق-ان-کے
H0776	H3478	H4256	

دیئے۔ کر تقسیم میں کنبنوں کے اُن اور قبیلوں سات باقی علاقے یہ کر ڈال قرعہ حضور کے رب نے یسوع پھر

11	נִזְעֵלָ	גֹזְרָלָ	מִטָּה	בְּנֵי-	בְּנֵימֹן	לְמִשְׁפַּחְתָּם	וַיֵּצֵא	גְּבוּלָ	גֹזְרָלָם
	اور-نکلا	قرعہ	قبیلے-کا	بیٹوں-کے-	بنیامین	خاندانوں-کے-مطابق-ان-کے	اور-نکلی	سرحد	قرعہ-ان-کے
	H5927	H1486	H4294		H1144	H4940	H3318	H1366	H1486

بِין	בְּנֵי	יְהוּדָה	וּבֵין	בְּנֵי	יוֹסֵף:
درمیان-میں	بیٹوں	یہوداہ-کے	اور-درمیان-میں	بیٹوں	یوسف-کے
H0996		H3063	H0996		H3130

تھی۔ درمیان کے قبیلوں کے یوسف اور یہوداہ زمین کی اُس گیا۔ مل حصہ پہلا کو کنبنوں کے اُس اور قبیلے کے یمین بن تو گیا ڈالا قرعہ جب

12	יְהוּ	לָהֶם	הַגְּבוּלָ	לְפָאֵת	צְפוֹנָה	מִן-	הַיַּרְדֵּן	וְעַלָּה	הַגְּבוּלָ	אֶל-	כְּתָף
	اور-تھی	ان-کے-لیے	سرحد	کونے-کی-طرف	شمالی	سے-	یردن	اور-چڑھی	سرحد	تک-	کندھے
	H1961		H1366	H6285	H6828		H3383	H5927	H1366	H0413	H3802

יְרִיחוֹ	מִצְפּוֹן	וְעַלָּה	בְּהָרָ	יְמִנָה	אוּהִיחַ	(וְהִיחַ)	תְּצַאֲתוֹ	מִדְּבָרָה
یریحو-کے	شمال-سے	اور-چڑھی	پہاڑ-میں	مغرب-کی-طرف	—	اور-تھے	نکاس-اس-کے	بیابان-کی-طرف
H3405	H6828	H5927	H2022	H3220	H1961	H1961	H8444	

אָוֶן:בֵּית
بیت-آون
[H1007](#)

بیت گزی۔ طرف کی مغرب سے میں علاقے پہاڑی کر چڑھ پر ڈھلان پہاڑی میں شمال کے یریحو اور بوئی شروع سے یردن دریائے سرحد شمالی کی اُس پر پہنچنے کو بیابان کے آون

13	וְעֵבֶר	מִשֶׁם	הַגְּבוּלָ	לְזוֹהָ	אֶל-	כְּתָף	לְזוֹהָ	הִיא	בֵּית-אֵיל	וַיֵּרֶד
	اور-گزی	وہاں-سے	سرحد	لوز	تک-	کندھے	لوز-کے	جنوب-کی-طرف	بیت-ایل	اور-اتری
	H8033	H1366	H3870	H0413	H3802	H3870	H5045	H1931	H1008	H3381

הַגְּבוּלָ	אֶזְרַע־עֲטָרוֹת	עַל-	הַהָרָ	אֲשֶׁר	מִנְגִּבָ	לְבֵית-חֲרוֹן	תַּחֲתָיו:
سرحد	عطارات-ادار	پر-	پہاڑ	جو	جنوب-میں	بیت-حورون	نچلے-کے
H1366	H5853		H2022		H5045	H1032	H8481

پہنچی تک پہاڑی اُس اور اذار عطارات وہ سے وہاں گئی۔ نکل آگے چلتی چلتی پر ڈھلان پہاڑی میں جنوب کے شہر کر بڑھ طرف کی ایل بیت یعنی لوز وہ ہے۔ میں جنوب کے حورون بیت نشیبی جو

14	וְתֵאֵר	הַגְּבוּלָ	וְנֹסֵב	לְפָאֵת-	יָם	נְגִבָה	מִן-	הַהָרָ	אֲשֶׁר	עַל-
	اور-موڑ-لی	سرحد-نے	اور-گھومی	کونے-کی-طرف-	سمندر-کے	جنوب-کی-طرف	سے-	پہاڑ	جو	پر-
	H1366	H5437	H6285	H3220	H5045	H2022				

בְּנֵי	בֵּית-חֲרוֹן	נְגִבָה	אוּהִיחַ	(וְהִיחַ)	תְּצַאֲתוֹ	אֶל-	קְרִית-בְּעֵלָ	הִיא
سامنے	بیت-حورون-کے	جنوب-کی-طرف	—	اور-تھے	نکاس-اس-کے	پر-	قریت-بعل	یہ
H6440	H1032	H5045	H1961	H1961	H8444	H0413	H7154	H1931

יְעָרִיםקְרִית	עִיר	בְּנֵי	יְהוּדָה	זֹאת	פָּאֵת-	יָם:
قریت-یعاریم	شہر	بیٹوں-کا	یہوداہ-کے	یہ	کونہ-	مغربی
H7157		H3063	H2063	H6285	H3220	

تھی۔ ملکیت کی قبیلے کے یہوداہ جو آئی پاس کے یعربم قریت یعنی بعل قریت پر طور کے سرحد مغربی کر مڑ طرف کی جنوب وہ پھر

15	وּפָאֵת-	נְגִבָה	מִקְצָה	יְעָרִיםקְרִית	וַיֵּצֵא	הַגְּבוּלָ	יְמִנָה	וַיֵּצֵא	אֶל-	מַעֲזֵן
اور-کونہ-	جنوبی	سرے-سے	قریت-یعاریم-کے	اور-نکلی	سرحد	مغرب-کی-طرف	اور-نکلی	تک-	چشمے	
H6285	H5045	H7157	H3318	H1366	H3318	H3220	H3318	H0413	H4599	

מִן
پانی-کے
نفتوح
[H5318](#) [H4325](#)

پہنچی۔ تک چشمہ نفتوح کر بو شروع سے کنارے مغربی کے یعربم قریت سرحد جنوبی کی یمین بن

16 **וַיֵּרֶד** اور-اتری **הַגְּבּוּל** سرحد **אֶל-** تک- **קִצְחָה** سرے **הַהָר** پہاڑ-کے **אֲשֶׁר** جو **עַל-** پر- **פְּנֵי** سامنے **נְי** وادی **בֶּן-** بن- **הַנּוֹם** بنوم-کے **אֲשֶׁר** جو

H2011

H1516

H6440

H2022

H0413

H1366

H3381

בְּעֵמֶק میدان-میں **רְفָאִים** رفاہیم-کے **צְפוֹנָה** شمال-میں **וַיֵּרֶد** اور-اتری **נְי** وادی **הַנּוֹם** بنوم **אֶל-** تک- **כְּתָף** کندھے **הַיְבוּסִי** یبوسیوں-کے **יְנֻבָּה** جنوب-کی-طرف **וַיֵּרֶد** اور-اتری

H3381

H5045

H2983

H3802

H0413

H2011

H1516

H3381

H6828

H6010

רַגְלֵי עֵינַי

عین-روجل

H5883

کے شہر کے یبوسیوں سرحد بعد کے اس ہے۔ واقع میں شمال کے رفاہیم میدان اور میں مغرب کے بنوم بن وادی جو آئی اتر پر دامن کے پہاڑ اُس وہ پھر آئی۔ پاس کے راجل عین کے کر پار کو بنوم وادی یوں اور گزری سے میں جنوب

17 **וַתָּאֵר** اور-موڑ-لی **מִצְפּוֹן** شمال-سے **וַיָּצֵא** اور-نکلی **תְּשֻׁשֵׁינָא** عین-شمس **וַיָּצֵא** اور-نکلی **אֶל-** تک- **גְּלִילוֹת** جلیلوت **אֲשֶׁר-** جو- **נֶחַח** سامنے **מַעְלָה** چڑھائی **אֲדָמִים** ادمیم-کی

H0131

H4608

H5227

H1553

H0413

H3318

H5885

H3318

H6828

וַיֵּרֶד اور-اتری **אֶבְרָתָא** پتھر **בְּהַן** بوبن-کا **בֶּן-** بن- **רְאוּבֵן:** روبن-کے

H7205

H0932

H0068

H3381

آئی۔ اتر پاس کے پتھر کے بوبن بیٹے کے روبن کر پہنچ تک جلیلوت شہر مقابل کے ادمیم درہ اور گزری سے پاس کے شمس عین کر مُڑ طرف کی شمال وہ پھر

18 **וַעֲבָר** اور-گزری **אֶל-** تک- **כְּתָף** کندھے **מּוֹל-** سامنے- **הָעֲרָבָה** عربہ-کے **צְפוֹנָה** شمال-کی-طرف **וַיֵּרֶד** اور-اتری **הָעֲרָבָתָה:** عربہ-میں

H6160

H3381

H6828

H6160

H4136

H3802

H0413

کر اتر میں وادی وہ پھر ہے۔ پر کنارے مغربی کے یردن وادی جو گزری سے پر رُخ شمالی کے ڈھلان اُس سے وہاں

19 **וַעֲבָר** اور-گزری **הַגְּבּוּל** سرحد **אֶל-** تک- **כְּתָף** کندھے **בֵּית-חֲגֵלָה** بیت-حجلہ-کے **צְפוֹנָה** شمال-کی-طرف **וְהָיָה** — **אִוְהָיָה** اور-تھے **תְּצַאוּתִינָא** — **הַצְּאוּת** نکاس

H8444

H8444

H1961

H1961

H6828

H1031

H3802

H0413

H1366

הַגְּבּוּל سرحد-کے **אֶל-** پر- **לְשׁוֹן** کھاڑی **יָם-** سمندر-کی- **הַמִּלְחָה** نمک-کے **צְפוֹנָה** شمال-کی-طرف **אֶל-** پر- **קִצְחָה** سرے **הַיְרֵדָן** یردن-کے **יְנֻבָּה** جنوب-کی-طرف **זָה** یہ

H2088

H5045

H3383

H0413

H6828

H4417

H3220

H3956

H0413

H1366

נְבִיב:

سرحد جنوبی

H5045 H1366

یمین بن تھی یہ ہے۔ بہتا میں اُس یردن دریائے جہاں وہاں بوئی، ختم پر کنارے شمالی کے مُردار بحیرہ اور گزری سے ڈھلان پہاڑی شمالی کی حُجلہ بیت سرحد-جنوبی کی

20 **וְהַיְרֵדָן** اور-یردن **יְבֻל-** سرحد-بناتا-ہے- **אֲתוּ** اسے **לְפָאֵת-** کوئے-کی-طرف- **קְדָמָה** مشرقی **זָאת** یہ **נַחֲלַת** میراث **בְּנֵי** بیٹوں-کی **בְּנֵימִן** بنیامین

H1144

H5159

H2063

H6285

H0853

H1379

H3383

לְבָבִי سرحدوں-کے-مطابق-اس-کی **סָבִיב** چاروں-طرف **לְמִשְׁפַּחָתָם:** خاندانوں-کے-مطابق-ان-کے

H4940

H5439

H1367

گیا۔ دیا مطابق کے کنوں کے اُس کو قبیلے کے یمین بن جو تھا علاقہ وہ یہی تھی۔ یردن دریائے سرحد مشرقی کی اُس

21	וְהָיוּ اور-تھے H1961	הָעָרִים شہر H4294	לְמַטָּה قبیلے-کے-لیے H4294	בְּנֵי بیٹوں H1144	בְּנֵימִן بنیامین-کے H1144	לְמִשְׁפַּחֹתֵיהֶם خاندانوں-کے-مطابق-ان-کے H4940	יְרִיחוֹ یریحو H3405	וּבֵית-חֲנָנִיָּה اور-بیت-حجلہ H1031	וְעַמֻּק اور-وادی H6010
----	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------

קָצִיץ:
قصيص
H7104

قصيص، عمق حُجلاه، بیت یریحو، تھے: شامل میں علاقے اس شہر کے ذیل

22	הָעֲרֵבָה וּבֵית اور-بیت-عربہ H1026	וְצַמְרִים اور-صماریم H6787	וּבֵית-אֵיל: اور-بیت-ایل H1008
----	---	-----------------------------------	--------------------------------------

ایل، بیت صمریم، عربہ، بیت

23	וְהָעֵינִים اور-عویم H5761	וְהַפָּרָה اور-فارہ H6511	וְעַפְרָה: اور-عفرہ H6084
----	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

عُفْرہ، فارہ، عویم،

24	אֶל-עַמּוֹנִי (וּכְפָר) اور-کفر H3726	וְהָעַפְנִי اور-عفنی H6078	וְגִבְעָה اور-جبعہ H1387	עָרִים شہر H8147	עֲשָׂרָה بارہ- H6240	וְחֲצֵרֵיהֶן: اور-گاؤں-ان-کے
----	---	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------

تھیں۔ جاتی گئی ساتھ کے اُس آبادیاں کی نواح و گرد کے شہر ہر تھے۔ شہر 12 کُل یہ جبع۔ اور عُفنی العمونی، کفر

25	גִּבְעוֹן جبعون H1391	וְהָרָמָה اور-رامہ H7414	وּבְאֵרוֹת: اور-بیروت H0881
----	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

بیروت، رامہ، جبعون، تھے: بھی شہر یہ علاوہ کے ان

26	וְהַמְצַפָּה اور-مصفہ H4708	וְהַכְּפִירָה اور-کفیرہ H3716	וְהַמְצָחָה: اور-موصہ H4681
----	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

موصہ، کفیرہ، مصفاه،

27	וְרָקִם اور-رقم H7552	וְיִרְפָּאֵל اور-یرفائیل H3416	וְתַרְעֵלָה: اور-ترعلہ H8634
----	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

ترالہ، یرفائیل، رقم،

28	וְצִלְעַ اور-صیلع H6762	הָאֵלֶף الف H0507	וְהַיְבוּסִי اور-یبوسی H2983	הָיָא یہ H1931	יְרוּשָׁלַיִם یروشلم H3389	גִּבְעַת جبعث H1394	קִרְיַת قریت H7157	עָרִים شہر H0702	עֲרָבָה چودہ- H6240	وְחֲצֵרֵיהֶן: اور-گاؤں-ان-کے
----	-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------

זָאת یہ H2063	נְחֻלָּת میراث H5159	בְּנֵי- بیٹوں-کی- H1144	בְּנֵימִן بنیامین H1144	לְמִשְׁפַּחֹתָם: خاندانوں-کے-مطابق-ان-کے H4940	פ —
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------

تھیں۔ جاتی گئی ساتھ کے اُس آبادیاں کی نواح و گرد کے شہر ہر تھے۔ 14 تعداد کی شہروں ان یعیريم۔ قَرِيَت اور جبعہ یروشلم، شہر کا یبوسیوں الف، ضلع،

تھے۔ ملکیت کی کنبوں کے اُس اور یعیمن بن شہر تمام یہ